



جس روزہ دار نہ بھول کر کھا پی لیا و اپنا روزہ مکمل کرے کیوں کہ اسہ اللہ نہ کھلایا اور پلایا

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: "جس روزہ دار نہ بھول کر کھا پی لیا و اپنا روزہ مکمل کرے کیوں کہ اسہ اللہ نہ کھلایا اور پلایا"
[صحیح] [متفق علیہ]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے بتایا کہ جس نے فرض یا نفل روزہ کی حالت میں بھول کر کچھ کھا یا پی لیا، و اپنا روزہ پورا کرے اسہ توڑ نہ دے کیوں کہ اس نے جان بوجھ کر کھایا یا پیا نہیں بلکہ خود اللہ نے اسہ کھلایا اور پلایا

<https://www.sunnah.global/hadeeth/ur/show/4525>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

